



## Noble Quran الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir) (حضرت شاہ عبدالقادر) اردو ترجمہ بمعہ عربی

### سورة الزخرف بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمّ

.1

لم-

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ

.2

قسم ہے اس کتاب واضح کی۔

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

.3

ہم نے رکھا اس کو قرآن عربی زبان کا، شاید تم بوجھو (سمجھو)۔

وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ

.4

اور یہ بڑی کتاب میں ہم پاس ہے اونچا محکم (حکمت سے بھرپور)۔

أَفَنضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ

.5

کیا پھیر (چھوڑ) دیں گے ہم تمہاری طرف (بھیجنا) سے یہ سمجھوتی موڑ کر،

اس سے کہ تم ہو لوگ جو حد پر نہیں رہتے۔

.6

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ

اور بہت بھیجے ہیں ہم نے نبی پہلوں میں۔

.7

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

اور نہیں آتا لوگوں کو کوئی پیغام لانے والے جس سے ٹھٹھا (مذاق) نہیں کرتے۔

.8

فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ

پھر کھپا (ہلاک کر) دیئے ہم نے ان سے سخت زور والے، اور چلی آئی ہے حقیقت (مثال) پہلوں کی۔

.9

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور اگر تو ان سے پوچھے، کس نے بنائے آسمان و زمین؟

لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

تو کہیں بنائے اس زبردست خبر دار نے۔

.10

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

وہی ہے جس نے بنادی تم کو زمین بچھونا، اور رکھ دیں تم کو اس میں راہیں شاید تم راہ پاؤ۔

.11

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَرِيئًا

اور جس نے اتارا آسمان سے پانی ناپ کر (خاص مقدار میں)،

پھر ابھارا (زندہ کیا) ہم نے اس سے ایک دیس مُردہ۔

كَذَلِكَ نُخْرِجُكَ

اسی طرح تم کو نکالیں گے۔

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا

اور جس نے بنائے سب چیز کے جوڑے،

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ

اور بنا دیئے تم کو چوپائے اور کشتی، جس پر سوار ہوتے ہو۔

لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِمْ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا

تا کہ) چڑھ بیٹھو اس کی پیٹھ پر، پھر یاد کرو اپنے رب کا احسان، جب بیٹھ چکو اس پر، اور کہو

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ

پاک ذات ہے وہ جس نے بس میں دیا ہمارے یہ، اور ہم نہ تھے اس کے مقابل ہونے والے۔

وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

اور ہم کو اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے۔

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا

اور ٹھہرائی ہے انہوں نے اس کو اولاد اس کے بندوں سے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَفُورٍ مُّبِينٍ

تحقیق (حقیقت میں) انسان بڑا ناشکر ہے صریح (کھلا احسان فراموش)۔

أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ

کیا رکھ لیں اپنی پیدائش میں سے بیٹیاں اور تم کو دیئے چُن کر بیٹے؟

وَإِذْ ابْتِشَرْنَا أَحَدَهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

جب ان میں سے کسی کو خوشخبری ملے اس چیز کی جو رحمن پر نام دھرا،  
سارے دن رہے اس کا منہ سیاہ اور وہ دل میں گھٹ رہا۔

أَوْ مَنْ يُنشِئُوا فِي الْحَلِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ

اور (کیا) ایسا شخص کہ پلتا رہے گہنے (زیورات) میں، اور جھگڑے میں بات نہ کہہ سکے۔

وَجَعَلُوا الْمَلَكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنْتِنَا<sup>ج</sup>

اور ٹھہرایا فرشتوں کو جو بندے ہیں رحمن کے، عورت۔

أَشْهَدُوا وَأَخْلَقَهُمْ<sup>ج</sup>

کیا دیکھتے تھے ان کا بننا (پیدا ہونا)؟

سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ

اب لکھ رکھیں گے ان کی گواہی، اور ان سے پوچھ ہوگی۔

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ<sup>ط</sup>

اور کہتے ہیں، اگر چاہتا رحمن تو ہم نہ پوجتے ان کو۔

مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ<sup>ط</sup>

کچھ خبر نہیں ان کو اس کی۔

إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

یہ سب اٹکلین (گمان) دوڑاتے ہیں۔

21. أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ ۖ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ

کیا ہم نے کوئی کتاب دی ہے ان کو اس سے پہلے؟ سو یہ اس پر مضبوط ہیں۔

22. بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُهُتَدُونَ

بلکہ کہتے ہیں ہم نے پائے اپنے باپ دادے ایک راہ پر، اور ہم انہی کے قدموں پر ہیں راہ پائے۔

23. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا

اور اسی طرح بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے ڈرسانے والا کسی گاؤں میں، سو کہنے لگے وہاں کے آسودہ لوگ،

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ

ہم نے پائے اپنے باپ دادے ایک راہ پر، اور ہم انہی کے قدموں پر چلتے ہیں۔

24. قُلْ أُولَٰئِكَ جُنُودُكُمْ بِأُحْدَىٰ هِمًّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِمْ آبَاءَكُمْ<sup>ط</sup>

وہ بولا، اور جو میں لادوں تم کو اس سے زیادہ سوجھ کی راہ، جس پر تم نے پائے اپنے باپ دادے، تو بھی

قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ ۖ كَافِرُونَ

کہنے لگے، ہم کو تمہارے ہاتھ بھیجا (دین) نہ ماننا۔

فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ<sup>ط</sup>

پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا،

فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

سو دیکھ آخر کیسا ہوا جھٹلانے والوں کا؟

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ

اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ کو، اور اس کی قوم کو،

إِنِّي بَرَاءٌ لِّمَا تَعْبُدُونَ

میں الگ ہوں ان چیزوں سے جن کو پوجتے ہو۔

إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ

مگر جس نے مجھ کو بنایا (پیدا کیا)، سو وہ مجھ کو راہ دے گا۔

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

اور یہی بات پیچھے چھوڑ گیا اپنی اولاد میں، شاید وہ رجوع رہیں۔

بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَاَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحُسْبُ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ

کوئی نہیں! پر میں نے برتنے دیا ان کو، اور ان کے باپ دادوں کو،

یہاں تک کہ پہنچا انکو دین سچا، اور رسول کھول سنانے والا۔

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ

اور جب پہنچا ان کو سچا دین کہنے لگے، یہ جادو ہے اور ہم نہ مانیں گے۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِ عَظِيمٍ

اور کہتے ہیں، کیوں نہ اترایہ قرآن کسی بڑے مرد پر ان دو بستیوں کے۔

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ<sup>ج</sup>

کیا وہ بانٹتے ہیں تیرے رب کی مہر (رحمت)؟

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا<sup>ج</sup>

ہم نے بانٹی ہے ان میں روزی ان کی، دُنیا کے جیتے،

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا<sup>ط</sup>

اور اونچے کئے درجے ایک کے ایک سے کہ ٹھہراتا ہے ایک دوسرے کو کیرا (خدمت گار)۔

وَرَحْمَتِ رَبِّكَ خَيْرٌ لِّمَا يَجْمَعُونَ

اور تیرے رب کی مہر (رحمت) بہتر ہے ان چیزوں سے جو سمیٹتے (جمع کرتے) ہیں۔

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ

اور اگر یہ نہ ہوتا کہ لوگ ہو جائیں ایک (ہی) دین پر، تو ہم دیتے ان کو جو منکر ہیں رحمن سے،

لِيُؤْتِيَهُم مِّنْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ

ان کے گھروں کو چھت روپے (چاندی کی) کے، اور سیڑھیاں جن پر چڑھیں۔

وَلْيُبَيِّنَ لَهُمُ آيَاتِهِمْ وَرُءُوسُ أَعْيُنِهِمْ لِيَتَّقُوا

اور ان کے گھروں کو دروازے اور تخت، جن پر لگ (تکیہ لگا کر) بیٹھیں۔

وَزُخْرُفًا

اور سونے کے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ كَفَرْتُمْ فَسَاءَ مَا مَتَعَ الْأَعْيُنَ

اور یہ سب کچھ نہیں، مگر برتنا دنیا کے جیتے۔

وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ

اور بچھلا گھر تیرے رب کے ہاں انہیں کو ہے جو ڈر رکھیں۔

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

اور جو کوئی آنکھیں چرائے رحمن کی یاد سے، ہم اس پر تعین کریں ایک شیطان پھر وہ رہے اسکا ساتھی۔

وَأَنَّهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْهُ وَالْمَلَائِكَةُ كُفَّةَةٌ

اور وہ اس کو روکتے ہیں راہ سے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ پر ہیں۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ

یہاں تک جب آئے ہم پاس، کہے، کسی طرے مجھ میں اور تجھ میں فرق ہو مشرق مغرب کا سا،

فَيَنْسَى الْفَرِيقَيْنِ

کہ تو برا ساتھی ہے۔



وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ أَلْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ

(کہا جائے گا ان سے)

اور کچھ فائدہ نہیں تم کو آج کے دن جب تم ظالم ٹھہرے، اس سے کہ تم مار (عذاب) میں شامل ہو۔

أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ

سو کیا تو سنائے گا، بہروں کو؟

أَوْ تَهْدِي الْأَعْمَى

یا سمجھائے گا اندھوں کو؟

وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

اور صریح غلطی میں بھٹکتوں کو؟

فَأَمَّا نَذْرٌ هَدَيْنَّا بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ

پھر اگر کبھی ہم تجھ کو لے گئے، تو ہم کو ان سے بدلہ لینا۔

أَوْ نُزِيرُ نَيْتِكَ الَّذِي وَعَدْتَهُمْ

یا تجھ کو دکھائیں جو ان کو وعدہ دیا ہے

فَأِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ

تو یہ ہمارے بس میں ہیں۔

فَأَسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ<sup>ط</sup>

سو تو مضبوط رہ اسی پر، جو تجھ کو حکم آیا۔

إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

تو ہے بیشک سیدھی راہ پر۔

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ<sup>ط</sup>

اور یہ مذکور رہے گا تیرا، اور تیری قوم کا

وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ

اور آگے (لوگو!) تم سے پوچھ ہوگی۔

وَسَّأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا

اور پوچھ دیکھ جو رسول بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے۔

أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهَةً يُعْبَدُونَ

(کیا) کبھی ہم نے رکھے ہیں رحمن کے سوا اور حاکم، کہ پوجے جائیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

اور ہم نے بھیجا موسیٰ اپنی نشانیاں دے کر، فرعون اور اس کے سرداروں پاس،

فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

تو کہا، میں بھیجا ہوں جہان کے صاحب کا۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بَأَيَّتِنَا إِذْ أَهْمُ مِنْهَا يَضْحَكُونَ

پھر جب لایا ان پاس ہماری نشانیں وہ تو لگے ان پر ہنسنے۔

وَمَا نُذِرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا<sup>ط</sup>

اور جو دکھاتے گئے ہم ان کو نشانی، سو دوسری سے بڑی۔

وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

اور پکڑا ہم نے ان کو تکلیف میں، شاید وہ باز آئیں۔

وَقَالُوا أَيُّتِيَّةِ السَّاحِرُ

اور (جب بھی عذاب آتا) کہنے لگے اے جادوگر!

أَدْعُنَا رَبَّنَا بِمَا عَاهَدَ عَلَيْكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ

پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو جیسا سکھار کھا ہے تجھ کو ہم مقرر راہ پر آئیں گے۔

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذْ أَهْمُ يَنْكُثُونَ

پھر جب اٹھالی ہم نے ان پر سے تکلیف، تبھی وہ وعدہ توڑ ڈالتے۔

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ

اور پکارا فرعون اپنی قوم میں، بولا،

أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ

اے قوم میری! بھلا مجھ کو نہیں حکومت مصر کی؟

وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا<sup>ط</sup>

اور یہ نہریں چلتی ہیں میرے (محل کے) نیچے؟

أَفَلَا تُبْصِرُونَ

کیا تم نہیں دیکھتے؟

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ

بھلا میں ہوں بہتر اس شخص سے جس کو عزت نہیں اور صاف نہیں بول سکتا؟

فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ

پھر کیوں نہ آپڑے (اتارے) اس پر کنگن سونے کے،

أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِكُ مَقْتَرِينَ

یا آتے اس کے ساتھ فرشتے پر اباندھ کر۔

فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ<sup>ج</sup>

پھر عقل کھودی اپنی قوم کی پھر اسی کو کہا مانا۔

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

مقرر (بیشک) وہ تھے لوگ بے حکم۔

فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ

پھر جب ہم کو بھی جھوٹا نجل (غضب) دلائی، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، پھر ڈبو دیا ان سب کو۔

فَجَعَلْنَاهُمْ سُلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ

پھر کر ڈالا ان کو گئے گذرے اور کہاوت (عبرت، مثال) پچھلوں کے واسطے۔

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ

اور جب کہاوت (مثال) لایئے مریم کے بیٹے کی، تو تبھی قوم تیری لگتے ہیں اس سے چلانے۔

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا هُنَّا خَيْرٌ أَمْ هُوَ

اور کہتے ہیں، ہمارے ٹھاکر (معبود) بہتر ہیں یا وہ (عیسیٰ)؟

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا

یہ نام جو دھرتے ہیں تجھ پر، سب جھگڑنے کو۔

بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ

بلکہ یہ لوگ ہیں جھگڑالو۔

إِن هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ

وہ کیا ہے؟ ایک بندہ ہے، کہ ہم نے اس پر فضل کیا

وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّلْبَنِي إِسْرَائِيلَ

اور کھڑا کیا (قدرت کا نمونہ بنایا) بنی اسرائیل کے واسطے۔

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ

اور اگر ہم چاہیں نکالیں تم میں سے فرشتے، رہیں زمین میں تمہاری جگہ۔

وَإِنَّهُ لَعَلُّكُمْ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ<sup>ج</sup>

اور وہ نشان ہے اس گھڑی (قیامت) کا، سو اس میں دھوکا نہ کرو، اور میرا کہاناؤ۔

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

یہ ایک سیدھی راہ ہے۔

وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ<sup>ط</sup>

اور (کہیں) نہ روکے تم کو شیطان۔ وہ تمہارا دشمن ہے صریح (کھلا)۔

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ

اور جب آیا عیسیٰ نشانیاں لے کر، بولا،

قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَالْبَيِّنَاتِ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ<sup>ط</sup>

میں لایا ہوں تمہارے پاس سچی (دانائی کی) باتیں اور بتانے کو بعضی چیز جس میں تم جھگڑتے تھے،

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

سو ڈرو اللہ سے، اور میرا کہاناؤ۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ<sup>ج</sup>

بیشک اللہ جو ہے وہی ہے رب میرا اور رب تمہارا۔ اس کی بندگی کرو،

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

یہ ایک سیدھی راہ ہے۔

فَأُخْتَلَفَ الْأَحْزَابَ مِنْ بَيْنِهِمْ<sup>ط</sup>

پھر بھٹ گئے فرقے ان کے بیچ سے۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ

سو خرابی ہے گنہگاروں کو، آفت سے دکھ والے دن کی۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

اب یہی راہ دیکھتے ہیں اس گھڑی کی، کہ آکھڑی ہو ان پر اچانک اور ان کو خبر نہ ہو۔

الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

جتنے دوست ہیں اس دن دشمن ہوں گے، مگر جو ہیں ڈر والے (متقی)۔

يَعْبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ

(ان سے کہا جائے گا)

اے بندو میرے! نہ ڈر ہے تم پر آج کے دن اور نہ تم غم کھاؤ۔

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ

(یہ وہ ہیں) جو یقین لائے ہماری باتوں پر اور رہے حکم بردار،

أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ مُحْبَبُونَ

چلے جاؤ بہشت میں تم اور تمہاری عورتیں، کہ تمہاری عزت (تمہیں خوش) کریں۔

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ<sup>ط</sup>

لئے پھرتے ہیں ان پاس رکابیاں سونے کی اور آنجورے (کوزے)،

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ<sup>ط</sup>

اور وہاں ہے جو دل چاہے، اور جس سے آنکھیں آرام پائیں۔

وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

اور تم کو ان میں ہمیشہ رہنا۔

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

اور یہ وہی بہشت ہے جو میراث پائی تم نے بدلے ان کاموں کے جو کرتے تھے۔

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ

تم کو ان میں میوے ہیں بہت ان میں سے کھاتے ہو۔

إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

البتہ جو گنہگار ہیں، دوزخ کی مار (عذاب) میں ہیں ہمیشہ رہتے۔

لَا يُفَتَّرُونَ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

نہ ہلکی ہوئی ہے ان پر اور وہ اسی میں پڑے ہیں ناامید۔

وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ

اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن تھے وہی بے انصاف۔



وَنَادُوا أَيَّمَالِكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ<sup>ط</sup>

اور پکاریں گے (داروغہ جہنم کو) اے مالک! کہیں ہم کو فیصل کر (کام تمام کر) چکے تیرا رب۔

قَالَ إِنَّكُمْ مَلَائِكَةٌ

وہ کہے گا، تم کو رہنا ہے۔

لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ

ہم لائے ہیں تمہارے پاس سچا دین، پر تم بہت لوگ سچی بات سے برامانتے ہو۔

أَمْ أَبْرَهْمُ أَمْ أَمْرًا مُّبْرَمُونَ

کیا انہوں نے ٹھہرائی ہے ایک بات تو ہم بھی کچھ ٹھہرا دیں گے۔

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ<sup>ج</sup>

کیا خیال رکھتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ان کا بھید اور مشورہ؟

بَلَىٰ أَوْرُسَلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُمُونَ

کیوں نہیں (کیوں نہیں) اور ہمارے بھیجے ان کے پاس ہیں لکھتے۔

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبْدِينَ

تو کہہ، اگر ہو رحمن کی اولاد! تو میں سب سے پہلے پوجوں۔

سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

پاک ذات ہے وہ رب آسمانوں کا اور زمین کا صاحب تخت کا، ان باتوں سے جو بناتے ہیں۔

فَذَرَّهُمْ يُخَوِّضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ

اب چھوڑ دے ان کو بک بک کریں، اور کھیلیں، جب تک ملیں اپنے اس دن سے، جس کا انکو وعدہ ہے۔

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ

اور وہی ہے جس کی بندگی ہے آسمان میں اور اس کی بندگی ہے زمین میں۔

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

اور وہی ہے حکمت والا سب جانتا۔

وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

اور بڑی برکت ہے اسکی، جس کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور جو انکے بیچ ہے۔

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

اور اسی پاس ہے خبر قیامت کی۔ اور اسی تک پھر (لوٹ کر) جاؤ گے۔

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَعَةَ

اور اختیار نہیں رکھتے جن کو یہ پکارتے ہیں، سفارش کا،

إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

مگر جس نے گواہی دی سچی، اور ان کو خبر تھی (وہ سفارش کر سکتے ہیں)۔

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

اور اگر تو ان سے پوچھے، کہ ان کو کس نے بنایا؟ تو کہیں گے اللہ نے،

فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

پھر کہاں سے الٹ جاتے (بہکے پھرتے) ہیں۔

وَقِيلَ ۚ يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُوْنَ

قسم ہے رسول کے اس کہنے کی کہ اے رب! یہ لوگ ہیں کہ یقین نہیں لاتے۔

فَاَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ

سو تو مڑ آ ان کی طرف سے، اور کہہ، سلام ہے

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

اب آخر کو (انجام) معلوم کر لیں گے۔

\*\*\*\*\*

.88

.89

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com

Email:

quran4u\_com@yahoo.com